

المعارج

(Al-Maarij)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ	
	سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک واقع ہونے والی سزا کے متعلق۔	
2	لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَفْعٌ	
	کافروں کے لئے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔	
3	مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ	
	بلندی والے حاکم اعلیٰ کے پاس سے	
4	تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ	
	نافذین احکامات اور علم و شعور کی بلندی کو وہاں تک پہنچنے میں پچاس ہزار سال لگتے ہیں	

5	فَاَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا	پس استقامت سے رہو خوبصورتی کے ساتھ۔
6	إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا	وہ لوگ اسے دور سمجھتے
7	وَنَرَاهُ قَرِيبًا	اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں
8	يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ	جس دن بلند مناصب ایسے ہو جائیں گے جیسے پگھلا ہوا تانبا
9	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ	اور بڑے بڑے سرداران قوم دھنکی ہوئی روئی کی طرح بے وقعت ہو جائیں گے۔
10	وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا	اور کوئی حبگری دوست اپنے حبگری دوست کو نہ پوچھے گا۔

11	<p>يُبَصِّرُوهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍ بِنَبِيِّهِ</p>	
	<p>وہ سب ایک دوسرے کو بصیرت کی نگاہ سے دکھائے جائیں گے۔۔۔ تو مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کی سزا کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے</p>	
12	<p>وَصَاحِبِئِهِ وَأَخِيهِ</p>	
	<p>اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو</p>	
13	<p>وَقَصِيصَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ</p>	
	<p>اپنے قریب ترین حساندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا۔</p>	
14	<p>وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ</p>	
	<p>اور عوام کے سب لوگوں کو فدیہ میں دیدے تاکہ یہ تذبذب سے نجات دلا دے۔</p>	
15	<p>كَلَّا إِنَّهَا لَنظَى</p>	
	<p>ہر گز نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی۔</p>	
16	<p>نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ</p>	

		جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔
17		تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ
		پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اُس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری
18		وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ
		اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا
19		إِنَّ الْإِنْسَانَ لَخُلُقٍ هَلُوعًا
		بے شک انسان کم ہمت بنا دیا گیا ہے۔
20		إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
		جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چپلا اٹھتا ہے۔
21		وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
		اور جب اسے مال ملتا ہے تو بڑا بخیل ہے۔
22		إِلَّا الْمُصَلِّينَ

		مگر مصلین کے
23		الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
		جو اپنی نظام صلاہ پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں
24		وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
		اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ معین ہے
25		لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
		سائل اور غیر سائل محرومین کے لیے۔
26		وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
		اور وہ جو مکافات عمل کے دن کی تصدیق کرتے ہیں
27		وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ
		اور وہ جو اپنے نظام ربوبیت کی سزا سے ڈرنے والے ہیں۔
28		إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنُونِ

بے شک ان کے نظام ربوبیت کی سزا کا خطرے سے امن نہیں ہے

29

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

اور وہ لوگ جو اپنی کمزوریوں سے بچنے والے ہیں۔

30

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

سوائے اپنی جماعتوں کے یا جن سے معاہدات کئے کوئی روک ٹوک نہیں۔

31

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

پس اگر کوئی اس حد سے باہر چاہے تو وہی حدود شکن ہے۔

32

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

اور وہ لوگ جو عہد و پیمانہ کا پاس رکھتے ہیں

33

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

اور وہ لوگ جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں

34

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

	اور وہ لوگ جو اپنے نظام سلطنت کی حفاظت کرنے والے ہیں	
35	أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ	
	یہ وہ لوگ ہیں جو سلطنت کے باعث ہیں	
36	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ	
	پس کافروں کو اب کیا ہو گیا کہ تمہاری طرف منہ اٹھائے دوڑے چلے آ رہے ہیں	
37	عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ	
	یمن و سعادت کے ساتھ اور تکبر و دھاندلی کے ساتھ۔	
38	أَيُّطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ	
	کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمتوں والی سلطنت میں داخل کیا جائے گا۔	
39	كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ	
	ہر گز نہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔	
40	فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ	

پس میں نظام ربوبیت کی گواہی کو لازماً پیش کرتا ہوں۔۔ اور میں اس بات پر قادر ہوں۔

41

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

کہ میں ان کو بہتر لوگوں سے بدل دوں۔۔ اور ہم سے سبقت لے جانے والا نہیں۔

42

فَدَرَّهُمْ يَخْوَصُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

تو ان کو ایسے ہی کھیل کود میں پڑے رہنے دو۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو

43

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِصُونَ

جس دن وہ دوڑتے ہوئے جہالت کی قبروں (قعر جہالت) سے نکلیں گے گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں

44

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

ان کی نگاہیں جھسکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔